

# Qur'anic Arabic Grammer

by: Shaikh Arshad Basheer Madani

## Nouns & Particles

## اسماء و حروف

### ضمائر منفصلہ

3rd Person Male		غائب مذکر	
He	وہ	Huwa	هُوَ
They (both)	وہ دونوں	Humaa	هُمَا
They (all)	وہ سب	Hum	هُم
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She	وہ	Hiya	هِيَ
They (both)	وہ دونوں	Humaa	هُمَا
They (all)	وہ سب	Hunna	هُنَّ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You	آپ	Anta	أَنْتَ
You (both)	آپ دونوں	Antumaa	أَنْتُمَا
You (all)	آپ سب	Antum	أَنْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You	آپ	Anti	أَنْتِ
You (both)	آپ دونوں	Antumaa	أَنْتُمَا
You (all)	آپ سب	Antunna	أَنْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I	میں	Ana	أَنَا
We	ہم	Nahnu	نَحْنُ

### ضمائر متصلہ

3rd Person Male		غائب مذکر	
His	اس کا	Hu	هُوَ
Their (both)	ان دونوں کا	Humaa	هُمَا
Their (all)	ان سب کا	Hum	هُم
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Her	اس کا	Haa	هَا
Their (both)	ان دونوں کا	Humaa	هُمَا
Their (all)	ان سب کا	Hunna	هُنَّ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Yours	آپ کا	Ka	كَ
Yours (both)	آپ دونوں کا	Kumaa	كُـمَا
Yours (all)	آپ سب کا	Kum	كُـم
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Yours	آپ کا	Ki	كِ
Yours (both)	آپ دونوں کا	Kumaa	كُـمَا
Yours (all)	آپ سب کا	Kunna	كُـنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
My	میرا	Yi	يَـ
Our	ہمارا	Naa	نَا

### Demonstrative Pronounstrative Pronoun / اسماء اشارہ

Near Distance / اسماء اشارہ قریب				
English	اردو	Roman	مثالیں	عربی
This	یہ	Haaza	هَذَا أَيُّهَا النَّاسُ	هَذَا
These (both)	یہ دونوں	Haazaani	هَذَيْنِ كَحُضْنِي الْخَضْمَانِ فِي رَجْعِهِ	هَذَانِ
These (all)	یہ سب	Haaulae	قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَعِيفٌ فَلَا تَقْضَحُونِ	هَؤُلَاءِ
This	یہ	Haazihi	هَذِهِ تَأَقَّةُ اللَّهِ	هَذِهِ
These (both)	یہ دونوں	Haataani	هَاتَانِ إِفْرَاتَانِ	هَاتَانِ
These (all)	یہ سب	Haaulae	هَؤُلَاءِ النِّسَاءُ	هَؤُلَاءِ
Far Distance / اسماء اشارہ بعید				
That	وہ	Zaalika	ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ	ذَلِكَ
Those (both)	وہ دونوں	Zaanika	ذَٰلِكَ الْكِتَابَانِ	ذَٰلِكَ
Those (all)	وہ سب	Aulaaeka	وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ	أُولَٰئِكَ
That	وہ	Tilka	تِلْكَ أَمْثَالُهُمْ	تِلْكَ
Those (both)	وہ دونوں	Taanika	تَٰلِكَ الْكُرْاسَاتَانِ	تَٰلِكَ
Those (all)	وہ سب	Aulaaeka	أُولَٰئِكَ النِّسَاءُ	أُولَٰئِكَ
Relative Pronouns / اسماء موصولہ				
Who, That, Which	وہ شخص جو	Allazi	الَّذِينَ يَلِدُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ ذُرِّيَّتِهِم مَّا يَلْتَقُونَ (الکہف: 1)	الَّذِينَ
Who, That, Which	وہ دو شخص جو	Allazaani	وَالَّذِينَ يَأْتِيهِم مَّا مَنَعَهُم (النساء: 16)	الَّذِينَ
Who, That, Which	وہ سب لوگ جو	Allazeena	الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (البقرہ: 23)	الَّذِينَ
Who, That, Which	وہ عورت جو	Allati	وَأَتَّخُوا النَّازِلِينَ عَلَيْهَا لَكُفْرًا (ال عمران: 131)	الَّتِي
Who, That, Which	وہ دو عورتیں جو	Allataani	الإمْرَاتَانِ اللَّتَانِ تَتَنَظَّهَانِ الْبَيْتَ	الَّتَانِ
Who, That, Which	وہ سب عورتیں جو	Allaati	وَأَقْبَسَتْهُمُ الرَّبِّيَّةُ الْوَالِدَاتُ (النساء: 23)	الَّتِي
Who, That, Which	وہ سب عورتیں جو	Allaace	وَالَّتِي يُؤْمِنُ مِن مِّنَ الْمُجْرِمِينَ (الطلاق: 4)	الَّتِي

### فاعل اور مفعول

The Active Participle / اسم فاعل			
English	اردو	Roman	عربی
Helper	مدد کرنے والا	Naasirun	نَاصِرٌ
Helpers (both)	مدد کرنے والے (دونوں)	Naasiraani	نَاصِرَانِ
Helpers (all)	مدد کرنے والے (سب)	Naasiroona	نَاصِرُونَ
Helper	مدد کرنے والی	Naasiratun	نَاصِرَةٌ
Helpers (both)	مدد کرنے والیاں (دونوں)	Naasiraatani	نَاصِرَاتَانِ
Helpers (all)	مدد کرنے والیاں (سب)	Naasiraatun	نَاصِرَاتٌ
The Passive Participle / اسم مفعول			
Helped	جس کی مدد کی گئی	Mansoorun	مَنْصُورٌ
Helped (both)	جن دونوں کی مدد کی گئی	Mansooraaani	مَنْصُورَانِ
Helped (all)	جن سب کی مدد کی گئی	Mansooroona	مَنْصُورُونَ
Helped	جس کی مدد کی گئی	Mansooratun	مَنْصُورَةٌ
Helped (both)	جن دونوں کی مدد کی گئی	Mansoorataani	مَنْصُورَاتَانِ
Helped (all)	جن سب کی مدد کی گئی	Mansooraatun	مَنْصُورَاتٌ

### Conjunctions / حروف عطف

ENGLISH	اردو	ROMAN	مثالیں	حروف
And	اور	Waau	إِنَّا كَتَبْنَا وَإِنَّا كَتَبْنَا (الفاتحہ: 5)	وَ
So	پس	Faa	أَمَّا تَقَاتِلَ فَإِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ (عبس: 21)	فَ
Or	یا	Aw	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعٌ وَأَنبُؤٌ (بقرہ: 19)	أَوْ
Or	یا	Am	ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنِينَ (المازعات: 27)	أَمْ
When, then	جب	Izan	إِنَّا إِذَا أَلَيْنَا لِلظُّلُمَاتِينَ (البقرہ: 145)	إِذَا
So, then	پھر	Summa	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَهْلًا فَأَكْفُرُوا لَهُمْ كَيْفَ تُحِبُّونَهُمْ (بقرہ: 28)	ثُمَّ
Until	یہاں تک کہ	Hattaa	وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّيِّئَاتِ فَتَكُونُوا مِنَ الْمَرْكُوبِينَ (بقرہ: 55)	حَتَّىٰ
Some	کچھ	Ammaa	قُلْ ءَالِدَا الَّذِينَ آمَنُوا أُمَّةٌ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ مِّنْكُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (البقرہ: 143)	أَمَّا
Either	یا تو	Immaa	قَالُوا يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَرَىٰ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُخْفُونَ الصَّلَواتِ (اعراف: 115)	إِمَّا

### Prepositions / حروف جر

ENGLISH	اردو	ROMAN	مثالیں	حروف
In/with	کے ساتھ	Baa	بِشْرِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (سورۃ النمل: ۳۰)	بِ
Swear	قسم	Taa	تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانَكُمْ (سورۃ الانبیاء: ۵۰)	تَ
Like/as	کی طرح، کے جیسا	Kaaf	مَثَلُ نُورٍ بِمَثَلِ ظُلْمٍ (سورۃ النور: ۳۵)	كَ
For/to	کے لیے	Laam	أَلَمْ يَلِدْهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْعُرْوَةُ (سورۃ الفاتحہ: ۱۰)	لَ
Swear	قسم	Waaau	وَالْعَصْرِ (سورۃ العصر: ۱)	وَ
Since	جب سے	Munzu	مَنْ أَرَادَنِي فَارْتَدِ يَوْمَ يُغْفَرُ لِمَنْ يَشَاءُ (سورۃ البقرہ: ۲۲)	مُنْذُ
Since	جب سے	Muz	مَنْ أَرَادَنِي فَارْتَدِ يَوْمَ يُغْفَرُ لِمَنْ يَشَاءُ (سورۃ البقرہ: ۲۲)	مُنْذُ
Except	سوائے	Khalaa	جَاءَ فِي الْقَوْمِ فَخَلَا زَيْنًا (صحیح البخاری: ۱۴۳۱)	خَلَا
Sometimes	کبھی کبھی	Rubba	رُبَّ مَبِيعٍ أَوْ عَمِيٍّ مِّنْ سَامِعٍ (صحیح البخاری: ۱۴۳۱)	رُبَّ
Except	سوائے	Haashaa	جَاءَ فِي الْقَوْمِ فَخَلَا زَيْنًا (صحیح البخاری: ۱۴۳۱)	خَلَا
From/ than	سے	Min	وَالَّذِينَ يُلْمُونَ يَوْمَ يُؤْتَوْنَ أَثَمَاتًا لِّذُنُوذِهِمْ فَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْعَذَابِ (سورۃ البقرہ: ۳)	مِنَ
Except	علاوہ	Adaa	جَاءَ فِي الْقَوْمِ فَخَلَا زَيْنًا (صحیح البخاری: ۱۴۳۱)	عَدَا
In	میں	Fee	وَفِي السَّمَاءِ رِزْقًا لَهُمْ وَمَا نُؤْتُونَ (سورۃ الزمر: ۲۲)	فِي
From/about	سے	An	وَأَتَّخُوا يَوْمَ يُؤْتَوْنَ أَثَمَاتًا لِّذُنُوذِهِمْ فَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْعَذَابِ (سورۃ البقرہ: ۳)	عَنِ
On/upon	پر، اوپر	Alaa	وَلْيَلْعَلْ عَلَى النَّاسِ مِثْلَ الْبَيْتِ مِمَّنْ اسْتَقْبَلَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (سورۃ ال عمران: ۹۰)	عَلَىٰ
Until	تک	Hattaa	سَلَامٌ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (سورۃ القدر: ۵۰)	حَتَّىٰ
To/Towards	تک، کی طرف	Ilaa	أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (سورۃ العنكبوت: ۱۲۵)	إِلَىٰ

تعریف: حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو جملوں کے درمیان تعلق اور جوڑ پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں۔

تعریف: حروف جر یعنی اپنے بعد میں آنے والے اسماء کو جر دینے والے۔